



# خوش آمدید!

اسپینش انٹرپریشن تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنی زوم ونڈو کے نیچے انٹرپریشن کے لیبل والے آئیکن پر کلک کریں۔



# آج کے اہداف

## آج کے مقاصد:

- مالی سال 26 کے سرمائے کی منصوبہ بندی کے عمل اور بجٹ کا جائزہ لینا
- ڈسٹرکٹس کیپیٹل پلاننگ پروسیس کے بارے میں CPS کمیونٹیز کی تفہیم کو بڑھانا جاری رکھنا
- خاندانوں سے مشورہ کرنا اور کیپیٹل بجٹ کی ترجیحات کے بارے میں رائے جمع کرنا

## ایسے سوالات جن کے بارے میں سوچنا چاہئے:

1. کیپیٹل بجٹ ترجیحات: آپ اور آپ کی کمیونٹی کے لیے کون سے سب سے زیادہ اہم ہیں؟
2. عوامی مصروفیت میں اضافہ: کیپیٹل پلاننگ کے عمل کے بارے میں کمیونٹیز کو کیسے مطلع کیا جائے اور اس سارے عمل میں مزید خاندانوں کے ساتھ کس طرح شامل ہوں؟



براہ کرم سروے ([cps.edu/springsurvey](https://cps.edu/springsurvey)) میں حصہ لینا یاد رکھیں۔



ایریل ویکا

ڈائریکٹرف رینوویشن  
کنسٹرکشن



راکیل جمینیز

کیپٹل کنٹرولز اور اسٹوڈنٹ انٹرنشپ



آئیون ہینسن

چیف فیسیلیٹیز آفیسر



وینی ڈائی

ایگزیکٹو ڈائریکٹر،  
کیپٹل پلاننگ اینڈ  
کنسٹرکشن

## مستعد رہیں

پیش قدمی اور ذمہ داری  
کے ذریعہ امتیاز

کلیدی اصول: قصداً کام کرنا اور انجام دینا۔ ہماری کامیابی کا  
تعیین کام، استقامت اور احتساب سے ہوتا ہے

## مثبت رہیں

خوشی، تبصرے،  
اور کام کے مختلف انداز کو اختیار کرنا

کلیدی اصول: خوشی کی حوصلہ افزائی کریں اور ترقی کی ذہنیت  
کو اپنائیں؛ ایجابیت طویل مدتی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔

## شائستہ بنیں

صداقت، عاجزی  
اور ریلیشنل لیڈرشپ

کلیدی اصول: تواضع اور کشادہ دلی کو قبول کریں، یہ سمجھیں کہ ہر  
کوئی ہماری اجتماعی کامیابی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے


## بہتر بنیں

مشاہدہ نفس اور سیکھنے  
کے ذریعہ مسلسل ترقی

کلیدی اصول: روزانہ بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ترقی ہمارے  
سفر کا تعین کرتی ہے

TeamOpsSpirit#

# مالی سال 27 کیپٹل پلاننگ ٹائم لائن



# بحث کے عنوانات

## ہمارے اہداف:

- 1 | CPS بلڈنگ پورٹ فولیو
- 2 | CPS بجٹ کو سمجھنا FY26 کو منظم کرنا
- 3 | کیپٹل پلاننگ اپروچ
- 4 | کیپٹل بجٹ کیٹیگریز

- FY26 کیپٹل پلان کو منظم کرنا
- ڈسٹرکٹس کیپٹل پلاننگ پروسیس کے بارے میں CPS کمیونٹیز کی تفہیم کی تعمیر
- خاندانوں سے مشورہ کرنا اور سرمائے کی ترجیحات اور کمیونٹی کی مصروفیت کو بہتر بنانے کے بارے میں تاثرات جمع کرنا


# بلڈنگ پورٹ فولیو

**522**   
کیمپس

**793**   
عمارتیں

**CPS عمارتوں کا پورٹ فولیو بڑا اور متنوع ہے**

CPS کو عمارت کے پورٹ فولیو کے سائز اور عمر کی وجہ سے بہت زیادہ سہولیات کی ضرورت ہے۔



**62 ملین**

مربع فٹ (14 سینرز/ولس ٹاورز کے مساوی)

**59**   
مربوط اضافے

سہولت کے پورٹ فولیو کے مجموعی سائز اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے، بجٹ کی مسلسل رکاوٹوں کے ساتھ، کیپٹل بجٹنگ کے لیے "اہم ضروریات" پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ضرورتوں پر مبنی ترجیحی نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔

**27** 

برانچ بلڈنگز

**21** 

لیز پر دی گئی سہولیات

**86 سال**

کیمپس کی اوسط عمر

ہم اثاثوں کی مزید خرابی سے بچنے ('برقرار رکھنے') کے میں (Facility Needs) لیے سہولیات کی اہم ضروریات سالانہ کم از کم 400 ملین ڈالر کی فنڈنگ کی سطح کا تخمینہ لگاتے ہیں۔


**152 سال**

قدیم کیمپس کی عمر

**71**   
ماڈیولر بلڈنگز

**93**   
ملحقہ عمارتیں

# الینوائے اسکول ڈسٹرکٹس



ڈسٹرکٹ کا نام	اہم شہر/علاقہ	اسکولوں کی تعداد	تقریباً داخلہ/تعداد طلب
شکاگو پبلک اسکولز 299	شکاگو	630	316,000
U-46 اسکول ڈسٹرکٹ	ایلگن	51	34,500
راک فورڈ ایس ڈی 205	راک فورڈ	45	27,600
انڈین پریری ایس ڈی 204	ارورا / نیپر ویل	34	26,000
پلین فیلڈ ایس ڈی 202	پلین فیلڈ	31	24,900
کمیونٹی یونٹ ایس ڈی 300	الگاتھون	28	20,300
نیپر ویل ایس ڈی 203	نیپر ویل	22	16,900
اوسویگو ایس ڈی 308	اوسویگو	22	16,000
لیویلی ویو ایس ڈی 365	رومیو ویل / ہولنگ بروک	22	15,200
واکیگن ایس ڈی 60	واکیگن	22	13,800
پیوریا ایس ڈی 150	پیوریا	32	12,600
اسپرنگ فیلڈ ایس ڈی 186	اسپرنگ فیلڈ	35	12,400
ایسٹ ارورا ایس ڈی 131	ایسٹ ارورا	22	12,300
ویبٹن وارن ویل ایس ڈی 200	ویبٹن	20	12,100
سینٹ چارلس سی یو ایس ڈی 303	سینٹ چارلس	18	11,800
ٹاؤن شپ ہائی اسکول ڈسٹرکٹ 214	آرلنگٹن ہائٹس	7	11,700
ٹاؤن شپ ہائی اسکول ڈسٹرکٹ 211	پیلاٹائن	8	11,500
جولیت پبلک ایس ڈی 86	جولیت	21	10,200
ووڈ اسٹاک سی یو ایس ڈی 200	ووڈ اسٹاک	12	9,400
میک لین کاؤنٹی یو ایس ڈی 5	نارمل / بلومنگٹن	26	9,100


## CPS اپنے وسائل کیسے مختص کرتا ہے؟

FY2026 CPS آپریٹنگ بجٹ – \$8.66 بلین

بجٹ میں ہر ڈالر کے 95 سینٹ سیدھے اسکول کو جاتے ہیں



## CPS کو فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے؟



نوٹ: کل میں تمام آپریٹنگ اور قرض کی خدمات کی آمدنی شامل ہے

# CPS بجٹ کو سمجھنا

## CPS بجٹ کی اقسام

**کیپیٹل:** تعمیرات، تزئین و آرائش اور بنیادی ڈھانچے پر مبنی ٹیکنالوجی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

**آپریٹنگ:** اسکولوں اور سہولیات کے روزمرہ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

**قرض:** بانڈز اور دیگر قرضوں پر سالانہ ادائیگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

# عمارت کی ضروریات - کیپٹل بمقابلہ آپریٹنگ اور مینٹیننس

## آپریٹنگ سہولیات اور مینٹیننس

## کیپٹل بجٹ

### دائرہ کار

- روزمرہ کے آپریشنز/مینٹیننس
  - کسٹوڈیل سروسز
  - زمین کی تزئین/برف ہٹانا
  - ویسٹ سروسز
  - الیکٹرک/گیس (سیپلائی اور ڈسٹری بیوشن)
- معمولی مرمت

### شیڈول

دنوں سے ہفتوں تک

### دائرہ کار

- اہم تزئین و آرائش / پروگرامی سرمایہ کاری / نئی تعمیر
  - چھت اور کھڑکیاں
  - مکینیکل، الیکٹریکل اور پلمبنگ
  - سائٹ سرمایہ کاری (پارکنگ لاٹ، کھیل کا میدان)

### شیڈول

چند ماہ سے لے کر +2 سال تک

# RECAP - FY26 کیپٹل بجٹ

بجٹ کیٹیگری	FY26 بجٹ* (\$ ملین)
سہولت کی ضروریات	\$310.75
اندرونی بہتری	\$16.70
پروگرامیٹک سرمایہ کاری	\$13.58
زیادہ ہجوم	\$0.00
آئی ٹی، سیکورٹی، اور دیگر سرمایہ کاری	\$113.50
سائٹ کی بہتری	\$17.70
کیپیٹل پروجیکٹ سپورٹ سروسز	\$23.00
<b>کل FY26 کیپیٹل پلان:</b>	<b>\$500.23</b>

\*ممکنہ بیرونی فنڈنگ شامل نہیں

# RECAP - کیپٹل بجٹ کی ترجیحات اور کمیونٹی فیڈ بیک



توانائی کی استعداد اور پائیداری



طلباء کی تفریح اور اینٹیلٹک وسائل



آئی ٹی اور سیکورٹی سرمایہ کاری



پروگرامیٹک سرمایہ کاری



مکینیکل، الیکٹریکل اور پلمبنگ کی ضروریات



چھت / لفافے کی ضروریات



خلائی استعداد



مادبولر ری فریشمنٹ پروگرام



ریسٹ روم اپ گریڈ



پارکنگ لاٹ کی مرمت



کھیل کے میدان میں تبدیلیاں



زیادہ ہجوم راحت




CPS نے مختلف طریقوں سے کمیونٹی کی شمولیت حاصل کرنے کی کوشش کی

- PACs، CACs اور LSCABs کے ساتھ شمولیت سے آغاز کیا
- کمیونٹی کی رائے کے لیے سروے کے ساتھ پانچ کیپیٹل کمیونٹی انگیجمنٹ سیشن منعقد کیے
- سروے میں 5,300 سے زیادہ جواب دہندہ تھے
- سروے کے نتائج کی جھلکیاں FY26 کیپیٹل بجٹ میں شامل کی گئیں تھیں۔
- سروے کے فیڈبیک نے ایکویٹی کے موجودہ عوامل اور طریقہ کار سے اتفاق کیا۔

○ سہولت کی ضروریات کی زمرہ کو سروے میں سب سے زیادہ ریٹنگ




مالی سال 2026 بجٹ بلحاظ




# تاریخی کیپٹل بجٹ


- CPS کو تعمیر کی اہم ضرورت ہے
- مجموعی ضرورت سالانہ فنڈنگ کی سطح سے زیادہ ہے
- تاریخی طور پر، سالانہ فنڈنگ کی سطح متغیر ہوتی ہے
- ترجیح اہم ہے



کیپٹل بجٹ ہر سال مختلف ہوتے ہیں اس لیے پروجیکٹ کی ترجیحات اہم ہیں۔



وسائل كى ائكوئٲى كا مقصد هر بچے كے لئے طالب علم كے مساوى تجرباٲا پئدا كرنا ہے۔  
وسائل ائكوئٲى كا مطلب ہے ضرورٲ اور مواقع كى سطحوں كے ساٲه ہم آہنگ ہونے كے لئے لوگوں؁ وقت اور رقم كو مسلسل ترجيح دئنا اور مختص كرنا۔



# FY27 CPS کیپٹل پلاننگ: ہمارا نقطہ نظر

کیپٹل پلاننگ کے لئے، CPS ضرورت کی بنیاد پر پروجیکٹ کو ترجیح دیتا ہے۔

CPS کا کیپٹل پلان ایکویٹی اور شفافیت پر توجہ مرکوز کرے گا

تعلیمی اقدامات اور دستیاب کیپٹل فنڈنگ سے ہم آہنگ ہو



# CPS کیپٹل پلاننگ: ہمارا عمل

کیپٹل  
پلان




کیپٹل کی  
ضروریات



مالی سال 27 کے کیپٹل بجٹ میں درج ذیل شعبوں پر توجہ دی گئی ہے:



آفس آف ایکویٹی سے  
جاری رہنمائی



سپورٹ  
ڈسٹرکٹ اقدامات  
(بشمول ADA) اور  
طلباء اور طالب علموں  
کے تجربات پر  
سرمائے کے اخراجات  
کے زیادہ سے زیادہ  
اثر کو بڑھانا



بجٹ کی ترجیحات پر  
کمیونٹی کا ان پٹ  
جاری رکھنا



شفافیت اور کمیونٹی  
کی شمولیت کو  
بڑھانا



اپ ڈیٹ کردہ  
سہولیات کی حالت  
کی تشخیص

# سہولیات کی حالت کی تشخیص تازہ ترین اپڈیٹ

## پروگرام کا جائزہ

سہولیات کی حالت کا جائزہ ایک بصری امتحان ہے جو ہر عمارت کے نظام کی حیثیت کو کیپچر اور ریکارڈ کرتا ہے اور ساتھ ہی بلٹ ان سہولت عناصر جیسے عمارت کی کل گنتی، مجموعی مربع فوٹیج، کمروں کی تعداد/اسپیس وغیرہ کی فہرست تیار کرتا ہے۔

## پروگرام پوسٹنگ

2023-2024 کے جائزوں کی رپورٹیں cps.edu پر مئی میں دستیاب کرا دی جائیں گی۔

شفافیت کو بڑھانے کی مسلسل کوششوں میں، CPS نے سہولیات کی تشخیص کا ایک مخصوص ویب پیج تیار کیا ہے

(<https://www.cps.edu/services-and-supports/school-facilities/facility-condition-assessment/>)

یہ سہولت کی تشخیص کے عمل کے بارے میں معلومات

تک رسائی کے لیے ایک واحد مقام فراہم کرتا ہے، اور ساتھ ہی کسی بھی CPS کی ملکیت والی اور چلنے والی سہولت کے لیے تشخیصی رپورٹ حاصل کرنے کے لیے تلاش کا فنکشن فراہم کرتا ہے۔

**Facility Assessment Report**

This report contains the detailed findings of the facility condition assessment completed on the date noted in the document footer. Assessors rate each facility item by visual observation only; they do not test the operation of equipment or perform destructive testing of walls, ceilings, or floors. Each facility item is ranked on a 7-point scale: a rank 7 means the item is new or in like-new condition and no work is required while rank 1 means the item has failed and has led to an immediate life safety condition. The remaining ranks generally mean that the item requires regular maintenance (rank 5 or 6) or full replacement (rank 2, 3 or 4). To enhance reporting and capital planning analysis, each assessed item must also be assigned a recommended replacement range (used to specify the time span, in years, before replacement is recommended). Definitions for Quantity and Unit of Measure (UOM) can be found at the end of this report.

For additional detail and definition on rank values as they relate to each assessed item or the recommended replacement range, please visit the "CPS Guide to Biennial Facility Assessments" found on the Facilities Standards webpage under CPS Policies and Guidelines at [http://www.cps.edu/About\\_CPS/Policies\\_and\\_guidelines/Pages/facilitystandards.aspx](http://www.cps.edu/About_CPS/Policies_and_guidelines/Pages/facilitystandards.aspx).

BuildingName	Year Constructed	Number of Floors	Building Area (Sq Ft)
Main	1949	2	18,360
Addition 1	1954	2	11,792
Addition 2	1961	2	38,154
<b>Campus Total</b>			<b>68,306</b>

**Category : Exterior**

Group	Item - Type	Location	Quantity	UOM	Rank	Recommend Replacement	Comments
<b>Entrance</b>							
	Entrance Control - Audio	2	1	EA	6	6-10 years	
	Exterior Doors - Exterior FRP Door	2	2	EA	6	6-10 years	
	Exterior Doors - Transom Lite	2	2	EA	6	6-10 years	
	Exterior Stairs - Concrete	2	10	LF	5	6-10 years	Pieces of concrete missing on wider first stair of Entrance 2.
	Exterior Stairs - Stone	2	68	LF	6	10+ years	
	Exterior Doors - Exterior FRP Door	3	2	EA	6	6-10 years	
	Exterior Doors - Transom Lite	3	2	EA	6	6-10 years	
	Exterior Stairs - Concrete	3	10	LF	5	10+ years	
	Exterior Stairs - Stone	3	68	LF	6	10+ years	
	Exterior Doors - Exterior Steel Door	3.5 Basement Mechanical Room	1	EA	6	6-10 years	
	Exterior Doors - Transom Lite	3.5 Basement Mechanical Room	1	EA	6	6-10 years	
	Exterior Stairs - Concrete	3.5 Basement Mechanical Room	60	LF	6	10+ years	
	Stair Handrail - Steel_Stair Handrail	3.5 Basement Mechanical Room	30	LF	6	10+ years	
<b>Foundation</b>							
	Foundation - Concrete	Entire Building	355	LF	7	10+ years	
	Superstructure - Concrete	Entire Building	18,360	SF	7	10+ years	
<b>Lighting</b>							
	Exterior Lighting - Parapet or Roof Mounted	Entire Building	2	EA	6	6-10 years	

# سہولت کی ضروریات کی خرابی

**%32**


## سہولت کے اپ گریڈز

اپ گریڈ بشمول فنشز (پینٹ، فنشز، سیلنگز)، لائٹنگ اپ گریڈ اور کلاس روم کے دیگر اپ گریڈ۔ یہ اپ گریڈ سیکھنے کے ماحول میں اضافہ کریں گے جبکہ عمارت کی توانائی کی کارکردگی میں بھی اضافہ کریں گے۔

**%23**

## فوری اہم ضروریات

2021-22 کی سہولت کی حالت کے جائزوں کی بنیاد پر اگلے 5 سالوں میں نظام کی اہم سہولت کی ضروریات جیسے عمارت کے لفافے (کھڑکیاں، چھت، چنائی) اور مکینیکل ہیٹنگ اور کولنگ سسٹم۔ ان اپ گریڈ کے نتیجے میں توانائی کی عمارتیں ہوں گی جن میں اندرونی ہوا کے معیار کو بہتر بنایا جائے گا۔



**%4**

## ADA رسائی

رسائی کے لیے 2021-22 کی سہولت کی حالت کے جائزوں کی بنیاد پر کیمپس کو قابل رسائی بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ اپ گریڈ سب کو مساوی رسائی فراہم کریں گے۔

**%41**

## طویل مدتی اہم ضروریات

2021-22 کی سہولت کی حالت کے جائزوں کی بنیاد پر 6 سے 10 سالوں میں نظام کی اہم سہولت کی ضروریات جیسے عمارت کے لفافے (کھڑکیاں، چھت، چنائی) اور مکینیکل ہیٹنگ اور کولنگ سسٹم۔ ان اپ گریڈ کے نتیجے میں انڈور اینر کوالٹی میں بہتری کے ساتھ توانائی کی بچت والی عمارتیں بنیں گی۔

# FY27 کیپٹل کی ضروریات - بجٹ کی ترجیحات



توانائی کی استعداد اور  
پائیداری



طلباء کی تفریح اور  
ابتہائیک وسائل



آئی ٹی اور سیکورٹی  
سرمایہ کاری



پروگرامیٹک  
سرمایہ کاری



مکینیکل، الیکٹریکل اور  
پلمبنگ کی ضروریات



چھت / لفافے  
کی ضروریات



خلائی استعداد



ماڈیولر ری  
فرشمنٹ پروگرام



ریسٹ روم اپ گریڈ



پارکنگ لاٹ کی مرمت



کھیل کے میدان  
میں تبدیلیاں



زیادہ ہجوم  
راحت



# عمارت تک رسائی میں سرمایہ کاری میں اضافہ

## ADA سرمایہ کاری کی حکمت عملی

- CPS کے طویل فاصلے کے اقدام کا سپورٹ، میئر کے دفتر کے ساتھ ہم آہنگی میں، ہر ایک کیمپس کو فراہم کر کے:



عوامی بیت الخلاء کا ایک  
قابل رسائی سیٹ



ایک قابل رسائی  
مرکزی دفتر



داخلی دروازے سے مرکزی  
اندرونی منزل (عام طور پر  
پہلی منزل) تک ایک قابل  
رسائی راستہ



مرکزی عمارت کے لیے قابل  
رسائی داخلی دروازہ



مرکزی عمارت تک جانے  
والے راستے کے ساتھ قابل  
رسائی پارکنگ



# چھت / لفافے کی ضروریات


مخصوص دائرہ کار: چھت کی تبدیلی / کھڑکی کی تبدیلی / معمار کی تبدیلی  
مخصوص شیڈول: 1 - 2 سال (گرمیوں کے وقفے کے دوران زیادہ تر کام)

## سیکھنے کے ماحول پر اثرات

اہم نظاموں کی تیز رفتار خرابی (یعنی چھتیں)



دوسرے نظاموں کو نقصان پہنچانا  
(مثلاً پلاسٹر، پینٹ، چھتیں،  
فرش ٹائل)



سہولیات کے آپریشن پر ممکنہ اثرات



صحت اور حفاظت کے مسائل کا خطرہ، جیسا کہ سیسہ پلٹے  
والا پینٹ، ہوا کا معیار، اور/یا مولڈ کی نشوونما



مرمت کی زیادہ لاگت



ناکام پلاسٹر/انٹیریئر فنشز



پانی کا تالاب اور حیاتیاتی نمو



بے گھر چمنی کی تعمیر



تبدیل شدہ چھت کا نظام



# توانائی کی کارکردگی اور پائیداری


مخصوص دائرہ کار: PV/سولر پینلز کی تنصیب  
مخصوص شیڈول: بجلی کے بنیادی ڈھانچے پر منحصر 1-2 سال

## سیکھنے کے ماحول پر اثر



صاف توانائی

طلباء کے لیے انٹرن شپ کے مواقع





# مکینیکل، الیکٹریکل اور پلمبنگ کی ضروریات

مخصوص دائرہ کار: حرارتی (بوائلر) یا کولنگ (چلر) کی تبدیلی / لائٹنگ اپ گریڈ / پائپنگ کی تبدیلی  
مخصوص شیڈول: 1-2 سال



گرمی کی تقسیم کی پائپنگ میں ناکامی



پرانا بوائلر (مفید زندگی سے باہر)



اپ ڈیٹ شدہ ڈسٹریبیوشن پائپنگ



اپ ڈیٹ شدہ بوائلر سسٹم

## سیکھنے کے ماحول پر اثرات

طلباء کے لیے ہوا کے معیار کے ممکنہ مسائل



سسٹم کی ناکامی (یعنی گیس کا لیک ہونا، پھٹنے والے پائپ)



انتہائی درجہ حرارت کے دوران طالب علم کی نقل مکانی کا خطرہ



زیادہ کارآمد اور ماحول دوست نظام





# ریسٹ روم اپ گریڈ

مخصوص دائرہ کار: طالب علموں کے باتھ روم کی تزئین و آرائش بشمول نئی تکمیل اور فکسچر کی تبدیلی  
مخصوص شیڈول: 1 - 6 سال (گرمیوں کے وقفے کے دوران زیادہ تر کام)



خراب فنشز



قدیم فکسچر اور خراب ٹیزائن



خراب فرش

## سیکھنے کے ماحول پر اثرات

صحت/صفائی کے مسائل



نان آپریشنل فکسچر/باتھ رومز کے لیے ممکنہ



ٹرپ/سلپ کے خطرات میں اضافہ



کارآمد اور ماحول دوست فکسچر اور لوازمات



محفوظ، صاف ستھری اور صارف دوست سہولیات





# پروگرامیٹک سرمایہ کاری

مخصوص دائرہ کار: مختلف ڈسٹرکٹ لیڈ اقدامات کی حمایت کے لیے تجدید شدہ یا نئے کلاس رومز (Pre-K توسیع، HS سائنس لیب اپ گریڈ، STEAM، STEM، وغیرہ) مخصوص شیڈول: 1 - 6 سال (گرمیوں کے وقفے کے دوران زیادہ تر کام)



باقاعدہ کلاس روم کی جگہ



پرانی کلاس روم کی جگہ



اپ ڈیٹ شدہ پری-کے کلاس روم



اپ ڈیٹ شدہ سیکھنے کا ماحول

## سیکھنے کے ماحول پر اثرات


21 ویں صدی کے سیکھنے کے ماحول کی حمایت کے لیے کلاس رومز کی تجدید کاری



اعلیٰ معیار کے پروگرام خالی جگہوں کی دستیابی میں اضافہ



نیا اور بہتر سازوسامان اور لچکدار ترتیب



ممکنہ ماحولیاتی خدشات کو کم کرنا (جیسے ایڈ، ایسیسٹوس)





# آئی ٹی اور سیکورٹی سرمایہ کاری

مخصوص دائرہ کار: بہتر سیکھنے، کیمرے، انٹرکام فون، الارم، اور اسکریننگ کے آلات کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی  
مخصوص شیڈول: 1 سال

## سیکھنے کے ماحول پر اثرات

ٹکنالوجی کے مسائل کو روکنے میں مدد کرنا جو طلباء کے سیکھنے، ڈیٹا کی حفاظت اور ورچوئل ٹیسٹنگ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔



کمپیوٹر کی مہارت کی ترقی کی حوصلہ افزائی کرنا اور پرانے ہونے والے آلات کو اپ ڈیٹ کرنا



مجموعی طور پر طالب علم، عملہ، اور وزیٹر کی حفاظت اور سلامتی پر اثر انداز ہونا



وزیٹر مینجمنٹ سسٹمز



سیکیورٹی کیمرے



# کھیل کے میدان کی بہتری



مخصوص دائرہ کار: نیا / متبادل کھیل کا میدان  
مخصوص شیڈول: 6 مہینے - 1 سال

## سیکھنے کے ماحول پر اثرات



بڑی ناقابل نفوذ سطح (سیلاب/حفاظتی خطرہ)



پرانا اور ناکام کھیل کا میدان (حفاظتی خطرہ)



نئی سبز خصوصیات کے ساتھ اپ ڈیٹ شدہ بیرونی جگہ



نئی حفاظتی خصوصیات کے ساتھ اپ ڈیٹ کردہ کھیل کے میدان

طالب علم/زائرین کی چوٹوں میں اضافہ



کھیل کے میدان کی بندش کا خطرہ (ممکنہ کمیونٹی کے اثرات)



عام طور پر، تمام طلباء کی آبادی کے لیے ناقابل رسائی (بشمول معذور طلباء)






# پارکنگ لاٹ کی مرمت/متبادل

مخصوص دائرہ کار: پارکنگ کی کمی کی جگہوں کو ہٹانا اور تبدیل کرنا (مثلاً، گڑھے، ناکافی روشنی، وغیرہ)  
مخصوص شیڈول: 6 مہینے - 2 سال



پارکنگ لاٹس کی کمی



تازہ پکی پارکنگ کی جگہ



## سیکھنے کے ماحول پر اثرات

خطرات عملے یا زائرین کے لیے چوٹ (سلیپ/گرنے)  
کا سبب بن سکتے ہیں۔



کم روشنی والے علاقوں میں سیفٹی کا خطرہ



ناقص حفاظتی اقدامات/نگرانی



زیادہ موثر ٹریفک کی روانی، جگہ کا استعمال،  
اور فرش کے نشانات



مزید پائیدار مواد کا استعمال





# طلباء کی تفریح اور ایتھلیٹک وسائل

مخصوص دائرہ کار: تجدید شدہ/متبادل طلباء کی تفریح اور ایتھلیٹک وسائل/سہولیات  
مخصوص شیڈول: 1-2 سال



ناکام/نان آپریشنل نیٹوریم



تباہ شدہ مصنوعی ٹرف اور ٹریک (حفاظتی خطرہ)



تجدید شدہ نیٹوریم



آپ ڈیٹ شدہ مصنوعی ٹرف اور ٹریک

## سیکھنے کے ماحول پر اثرات

عام طور پر، تمام طلباء کی آبادی کے لیے ناقابل رسائی  
(بشمول معذور طلباء)



ایتھلیٹک وسائل جیسے پول یا ٹریک (ممکنہ کمیونٹی اثر)  
کی بندش کا خطرہ



تمام طالب علموں کے لیے صحت مند اور فعال مشغولیت  
کو فروغ دیتا ہے۔





# مادیولر ری فریشمنٹ پروگرام

مخصوص دائرہ کار: موجودہ مادیولر عمارتوں کی تزئین و آرائش، تبدیلی یا ہٹانا  
مخصوص شیڈول: 1-2 سال



متبادل مادیولر بلڈنگ



موجودہ مادیولر بلڈنگ



نئی/متبادل مادیولر بلڈنگ



موجودہ مادیولر بلڈنگ



## سیکھنے کے ماحول پر اثرات

اہم نظام کی تیز رفتار خرابی (یعنی چھت، سائڈنگ، مکینیکل سامان، اندرونی تکمیل)



سہولیات کے آپریشن پر ممکنہ اثرات



صحت اور حفاظت کے مسائل کا خطرہ، جیسا کہ سیسہ پلٹے والا پینٹ، ہوا کا معیار، اور/یا مولڈ کی نشوونما



سیکھنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا جو مستقل عمارت کے تجربے کے برابر ہو






# خلائی استعداد اور عمارت کا معیار

پبلک ان پٹ اور اسکول کے مطالبات کی بنیاد پر، اسپیس ایفیشنسی ایک نئی بجٹ کیٹیگری ہے جو مالی سال 25 میں عمارتوں کے پورٹ فولیو میں وسیع تحقیق کرنے کے لیے بنائی گئی ہے:

- اس بات کا تعین کرنا کہ آیا کسی عمارت کے کچھ ایسی جگہیں ہیں جو آپریٹنگ اخراجات کو کم کرنے یا عمارت کے کاموں میں کارکردگی بڑھانے کے لیے تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔
- اس بات کا تعین کرنا کہ آیا کوئی متروک عمارتیں ہیں جنہیں گرایا جانا چاہیے یا تبدیل کیا جانا چاہیے، اور
- اس بات کا تعین کرنا کہ کیا ایسے کیمپس موجود ہیں جن میں بھیڑ بھاڑ کو دور کرنے کے لیے سرمائے کی سرمایہ کاری کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔



موجودہ پارکنگ کا علاقہ  
نئی کھیل کی جگہ (عم: 12-2)  
(6,000 مربع فٹ)

موجودہ پارکنگ کی تجدید  
(12,000 مربع فٹ)  
(60-65 گاڑیوں کی  
گنجائش)

موجودہ ضمیمہ عمارت  
اور کھیل کا میدان  
سمار کیا جائے گا

نئی پارکنگ بطور متبادل  
تعمیر  
(20,000 مربع فٹ)  
(65-60 گاڑیوں کی  
گنجائش)

سائٹ پلان - موجودہ

موجودہ ریڑ کے چلنے  
پہوار ریڑ سطح سے بدلے  
جائیں گے

کٹائی، دوبارہ سطح بندی  
اور موجودہ نوڑ پٹری کا  
رنگ

# سرمایہ کی ترجیحات: کیپٹل بجٹ کیٹیگریز

درج ذیل سرمائے کی ضروریات کو ترجیح دینے کے لیے عوامی رائے جمع کرنا:

**کھیل کے میدان میں تبدیلیاں**  
ایسے کھیل کے میدانوں کو تبدیل کرنا جو پرانے  
یا طلباء کے گروپ کے لیے ناکافی ہیں۔



**پروگرامیٹک سرمایہ کاری**  
21 ویں صدی کے سیکھنے کے ماحول کو فراہم  
کرنے کے لیے کلاس رومز کی تجدید کاری



**چھت / لفافے کی ضروریات**  
معمار، چھت، یا کھڑکی کے نظام کی  
بڑی تزئین و آرائش یا تبدیلی



**پارکنگ لاٹ کی مرمت/متبادل**  
ایسے پارکنگ لاٹس کی مرمت یا تبدیلی کرنا جو خراب حالت میں  
ہیں یا ان میں روشنی اور حفاظتی اقدامات ناکافی ہیں۔



**زیادہ ہجوم**  
ضلع بھر کے سکولوں میں بھیڑ بھاڑ  
کو کم کرنا



**مکینیکل، الیکٹریکل اور پلمبنگ  
کی ضروریات**  
مکینیکل، الیکٹریکل، اور پلمبنگ سسٹم کی  
مرمت یا تبدیلی کرنا جو کام کر سکتے ہیں  
لیکن ناکارہ ہیں اور مہنگی دیکھ بھال کی  
ضرورت ہوتی ہے



**طلباء کی تفریح اور ایتھلیٹک وسائل**  
طلباء کے ایتھلیٹک وسائل/سہولیات کی مرمت یا تبدیل کرنا جو خراب حالت  
میں ہیں، بشمول موجودہ نیٹوریم، ٹرف کے میدان، ٹریک اور اسٹیڈیم



**آئی ٹی اور سیکورٹی سرمایہ کاری**  
ضلع کے اہم آئی ٹی سسٹمز کو سپورٹ  
کرنا اور اسکولوں کو نیا اور حفاظتی  
سامان فراہم کرنا



**ریسٹ روم اپ گریڈ**  
بیت الخلاء خراب حالت میں (ختم اور  
پارٹیشنز)، غیر کام کرنے والے فکسچر،  
یا ناکافی وینٹیلیشن



**مادھیولر ری فریشمنٹ پروگرام**  
موجودہ پورٹ فولیو میں خراب حالت میں موجودہ مادھیولر عمارتوں  
کی تزئین و آرائش، تبدیل یا ہٹانا



**توانائی کی استعداد اور پائیداری**  
پائیداری پر مرکوز پروجیکٹس  
کی کیٹیگری



**خلائی استعداد**  
جگہ اور وسائل کے موثر استعمال  
کے لیے کیمپسز کا جائزہ






[cps.edu/capitalmeetings](https://cps.edu/capitalmeetings)

سروے آن لائن 30 اپریل 2026 تک دستیاب ہے



# مالی سال 27 کیپٹل پلاننگ ٹائم لائن



# براه كرم اس سروے كو مكممل كریں



[cps.edu/capitalmeetings](https://cps.edu/capitalmeetings)

سروے آن لائن 30 اپریل 2026 تک دستیاب ہے





شکریہ

ہم آپ کے تاثرات سننے کے لیے پرجوش ہیں